



سوال

(382) حائضہ کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونے اور دوران طواف حیض محسوس کرنے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا حائضہ کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا جائز ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ دوران طواف خون حیض کو محسوس کرے تو وہ کیا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حائضہ کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے ہاں وہ اس میں صرف گزر سکتی ہے لیکن اس میں طواف سماع ذکر تسبیح و تہلیل کے لیے رکنا جائز نہیں ہے۔ اور جب وہ دوران طواف خون حیض کو اترتا ہوا محسوس کرے تو جب تک اس کو واضح طور پر حیض کے آجانے کا یقین نہ ہو جائے وہ اپنا طواف جاری رکھے پھر جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کا حیض جاری ہو گیا ہے تو اس واجب ہے کہ وہ طواف کو چھوڑ کر لوٹ جائے اور پاک ہونے تک انتظار کرے۔ پس جب وہ پاک ہو جائے تو نئے سرے سے طواف شروع کرے۔ (فضلیۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 329

محدث فتویٰ